

انفرادی تعلیمی پلان (IEP) والدین/سرپرست وسیلہ

IEP کیا ہے؟

- ایک انفرادی دستاویز جو بیان کرتی ہے کہ آپ کا بچہ اسکول دن میں کیا سیکھ رہا ہے۔ یہ آپ کے بچے کی صلاحیتوں، دلچسپیوں اور ضروریات کی نشاندہی کرنے والی تشخیص پر مبنی ہوتا ہے۔
- IEP میں مطابقت/موافقت، اور/یا ترامیم شامل ہو سکتی ہیں۔

کیا آپ جانتے تھے؟

- IEP کو ایک شراکتی ٹیم کے ذریعہ تیار کیا جاتا ہے۔ IEP ٹیموں میں آپ، آپ کا بچہ، آپ کے بچے کے معلمین، پرنسپل، معاون عملہ اور کمیونٹی ایجنسیاں (اگر قابل اطلاق ہوں) شامل ہوتی ہیں۔
- موافقت اور/یا ترامیم کی منصوبہ بندی کرتے وقت آپ کے بچے کی خوبیوں، دلچسپیوں اور ضروریات کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔
- اسکول پرنسپل یہ یقینی بنانے کا ذمہ دار ہے کہ IEPs کو تخلیق، ان کا جائزہ لیا، اپ ڈیٹ کیا اور لاگو کیا جاتا ہے۔
- IEP پر تواتر سے بات چیت، جائزہ اور نظر ثانی کی جانی چاہیے جب آپ کا بچہ اپنے سیکھنے کے اہداف کو پورا کرتا ہے یا کامیاب ہونے کے لیے اضافی حکمت عملیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔

آپ کا کردار کیا ہے؟

- صحت، طبی اور/یا اپنے بچے کے بارے میں دیگر متعلقہ معلومات کا اسکول کے ساتھ اشتراک کریں۔
- IEP ملاقاتوں میں شرکت کریں اور پلان کے بارے میں رائے فراہم کریں۔
- گھر پر یا کمیونٹی شراکت داروں کے ساتھ کام کرنے کے طریقوں یا حکمت عملیوں کا اشتراک کریں۔
- اگر آپ کے ان کے IEP کے بارے میں کوئی سوالات ہیں تو اپنے بچے کے ٹیچر سے دریافت کریں۔

خصوصی تعلیم سے متعلق موضوعات بشمول IEPs کے بارے میں تفصیلی معلومات کے لیے برائے مہربانی HWDSB کی خصوصی بنائی سروسز کی معلوماتی ویڈیو سیریز ملاحظہ کریں۔

یہاں مزید جانیں www.hwdsb.on.ca/about/special-education